



م ظہر اور عصر میں رسول اللہ ﷺ کے قیام کا اندازہ لگاتا تھا۔ م نہ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں قیام کا اندازہ آلم: تنزیل (السجدہ) کی قراءت کے بقدر لگایا اور اس کی آخری دو رکعتوں کے قیام کا اندازہ اس سے نصف کے بقدر لگایا۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: م ظہر اور عصر میں رسول اللہ ﷺ کے قیام کا اندازہ لگاتا تھا۔ م نہ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں قیام کا اندازہ آلم: تنزیل (السجدہ) کی قراءت کے بقدر لگایا اور اس کی آخری دو رکعتوں کے قیام کا اندازہ اس سے نصف کے بقدر لگایا اور م نہ عصر کی پہلی دو رکعتوں کے قیام کا اندازہ لگایا کہ وہ ظہر کی آخری دو رکعتوں کے برابر تھا اور عصر کی آخری دو رکعتوں کا قیام اس سے آدھا تھا ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں آلم تنزیل کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا: تیس آیات کے بقدر۔

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

اس حدیث میں ظہر اور عصر کی نمازوں کے قیام کی مقدار بیان کی گئی ہے۔ نماز ظہر کی پہلی دو رکعتوں کے قیام کی مقدار تیس آیت کی قراءت کے مساوی یعنی سورہ سجدہ کی تلاوت کے برابر اور آخری دو رکعتوں کی مقدار پہلی کی نصف یعنی پندرہ آیتوں کی تلاوت کے برابر ہے۔ نماز عصر کا قیام ظہر سے ملکا ہوتا ہے اس کی پہلی دو رکعتیں نماز ظہر کی بعد کی دو رکعتوں کے مساوی یعنی پندرہ آیتوں کے برابر ہوں گی۔ جب کہ آخری دو رکعتیں پہلی دو رکعتوں کے نصف کے برابر یعنی سات سے آٹھ آیت کی قراءت کے برابر۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10917>



النجاه الخيرية
ALNAJAT CHARITY

